

# BUSINESS RECORDER

Karachi, Thursday 29 May 2025, 1 Zilhij 1446

India's treatment of minority.

## ASHFAQ TEXTILE MILLS LIMITED

### NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Ashfaq Textile Mills Limited (the "Company") will be held on **Monday June 30, 2025 at 10:00 A.M** at Registered Office: 17 - K. M. Jaranwala Road, Faisalabad to transact the following business.

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting.
2. To elect eight (8) directors being the number of directors as fixed by the Board of Directors pursuant to section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a term of next three years. Following are the retiring Directors who are eligible for re-election:

1) Mr. Ashfaq Ahmad	2) Mr. Nadeem Ashfaq
3) Mr. Waseem Ashfaq	4) Mrs. Shazia Amjad
5) Mrs. Nazia Irfan	6) Mr. Muhammad Aqeel Idrees
7) Mr. Abdul Wahid	8) Mr. Syed Abuzar Hussain

3. To transact any other Business with the permission of the chair.

Dated: May 27, 2025  
Place: Faisalabad.

By the Order of the Board  
**Ashfaq Ahmad**  
(Chief Executive)

### NOTES:

1. The share transfer books of the company will remain closed from June 22, 2025 to June 30, 2025 (both days inclusive).
2. In terms of section 159 of the Companies Act, 2017 any member who seek to contest an election to the office of the director shall whether he/she is a retiring director or other wise, file with the company, not later than fourteen (14) days before the meeting at which election are to be held the following documents: a notice of his/her intention to offer himself for election as a director along with consent to act as director u/s 159 (4) of the Companies Act, 2017.

Notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. The candidate should also conform that:

- (a) Neither he / she nor his / her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor, Directors or Officers of a corporate brokerage house.
- (b) He/she is not serving as a Director in more than seven listed companies simultaneously, provided that this limit shall not include the directorship in the listed subsidiaries of a listed holding company.
- (c) Consent to act as director in Form 28.
- (d) A detailed profile / curriculum vitae of the candidate.
- (e) Signed declaration in respect of being compliance with the requirements of the Code of Corporate Governance, 2012 are the eligibility criteria as a set out in the Companies Act, 2017 to act as director of listed Company.

3. A member entitled to attend, speak and vote at this meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. A proxy must be a member of the Company. Any individual beneficial owners of CDS, entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her Original CNIC, CDS account and participant's I.D. Nos. In case of proxy must enclose attested copies of his/her CNIC, CDS account and participant's I.D. Nos. Proxies in order to be effective must be received at registered office of the company not less than 48 hours before the date of this meeting.

4. Shareholders are requested to please notify any change in their addresses immediately.

5. Members who have not yet submitted photocopy of their CNIC to the Company are requested to send the same at the earliest.

### 1. Statement made under section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of appointment of Independent Directors.

The independent directors shall be selected from a data bank containing names, addresses and qualifications of the persons who are eligible and willing to act as Independent directors in terms of section 166(1) of the Companies Act, 2017.

Any person who is eligible under section 153 and meet the criteria under section 166(2) of the Companies Act, 2017, may submit nomination to be elected as independent director. However, it is noteworthy to mention here that independent director shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of section 159 of the Companies Act, 2017.

The final list of contesting directors will be circulated not later than seven days before the date of said meeting in terms of section 159(4). Further, the website of the company will also be updated with the required information for each contesting directors in terms of note 2 mentioned above.

No directors have direct or indirect interest in the above said business except as a shareholders and that they may consent for



### اشفاق ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

انسان برائے سب مومن بن جائے

اطلاع دی جاتی ہے کہ اشفاق ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (پبلک) کے میٹرز ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام درجہ اولیٰ امور کی انجام دہی کے لئے بروز جمعہ مورخہ 30 جون 2025 کو 10:00 بجے ریسٹورنٹ 17-K.M-17 جڑاؤ والہ روڈ، فیصل آباد میں منعقد ہوگا۔

1۔ سراجہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹروں کا انتخاب کرنا، جیسا کہ ہولڈ آف ڈائریکٹرز نے اگلے تین سال کے لئے ان کی تصدیق تین کیا ہے جس کی مدت تین سال کے لئے ہوئی ہے۔

3۔ جیٹر میں کی اجازت سے اجلاس کے سامنے رکھے گئے کسی بھی امور پر غور و خوض۔

فیصل آباد: مورخہ 27 مئی 2025ء، حسب المکر ہیرو، اشفاق احمد (چیف ایگزیکٹو)

1۔ کمپنی کی منتقلی مضمون کی سب مورخہ 22 جون 2025ء سے 30 جون 2025ء (مشمول ہر دو ایام) بند ہو گئی۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کے عہدے کے لئے انکسٹن میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو خواہ اس کا تعلق ریٹائرڈ ہوئے والے ڈائریکٹر سے ہی کیا نہ ہو، ان کی جانب سے ڈائریکٹری مجوزہ تاحزور کیاں دوران اوقات کار، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں غیر معمولی اجلاس سے از کم 14 دن پہلے موصول ہونا ضروری ہیں۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت انکسٹن آف ڈائریکٹرز میں حصہ لینے کے خواہشمند کو باقاعدہ نوٹس کے ذریعے اس کا اظہار کرنا ہوگا۔ انکسٹن میں بطور ڈائریکٹر حصہ لینے کے لئے خواہشمند امیدوار اس امر کو بھی بخشنی چاہئے گا کہ:

(a) وہ اس کا شوہر یا اس کی بیوی ریکورڈنگ کے کاروبار میں ملوث ہیں اور نہ ہی پائپرس مینی کارپورٹ برچ باؤس کے ممبر ہیں یا ڈائریکٹر۔

(b) وہ سات اندراج شدہ کمپنیاں (Listed Companies) میں بے پکت ڈائریکٹر کام نہیں کرتے۔ ریکورڈنگ شدہ ہولڈنگ کمپنیاں اور ان کے ذیلی اداروں سے انکسٹن ہے۔

(c) فارم 28 میں ڈائریکٹر کے عہدے کے لئے خواہش کا اظہار کرنا۔

(d) امیدوار کا پاسپورٹ سائز فوٹو اور قلمی اسناد۔

(e) کمپنیز ایکٹ 2017 کے نوڈ آف کارپورٹ گورننس 2012 کے طے کئے گئے طریقہ کار کے مطابق اندراج شدہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر انکسٹن پر دستخط کرنا ہوں گے کہ وہ اپنی تصدیق دیاں پوری کرنے کے قابل ہیں۔

3۔ معزز کارکنان خراسان اجلاس میں شرکت سائے اور ووٹ دینے کے قابل ہیں وہ کسی دوسرے کارکن کو بطور پراسی حق کر سکتے ہیں۔ پراسی کا کوئی بھی ممبر نہ ضروری ہے۔ CDS کا فوٹو ملنگ اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا قابل ہے شرکت کے لئے پروفوی شناختی کارڈ (NIC) کی تصدیق شدہ کاپی اور پراسی ڈی ایس کے کاؤنٹ بر (ID) کے کاپی ملایا گیا۔ پراسی فارم کے مقررہ ہونے کے لئے کارڈ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا لازمی ہے۔

4۔ حصص داران سے اتنا اس ہے کہ ان کے پتہ میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو تو اپنی اطلاع کوئی اطلاع دیں۔

5۔ ممبران، جی ایس بی، اپنے فوٹی شناختی کارڈ کی واضح فوٹو کاپی اس میں کر سکتے، وہ کوئی کو جلد اس میں کر دیں۔

(1) آزاد ڈائریکٹری تقرری کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 (3) کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹروں کا انتخاب ایک ڈی ایٹیک سے کیا جائے گا جس میں ان افراد کے نام ہیں اور الیٹ موجود ہیں کے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 166 کے مطابق فوٹی ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے قابل اور تیار ہیں۔

کوئی بھی شخص جو سیکشن 153 کے تحت اہل ہے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 166 کے تحت مقررہ پروفوی ہے، آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے لئے ہندوئی بن کر سکتا ہے۔ تاہم، یہاں سے بات چیل ڈر کے آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب اس طرح کیا جائے گا جس طرح کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت دوسرے ڈائریکٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔

سیکشن (4) 159 کے مطابق متاثرہ کرنے والے ڈائریکٹر کی حق فرسٹ ڈیورنڈنگ کی مدت سے سات دن پہلے چیل کی جائے گی۔ مزید برآں، کمپنی کی ایب سامت کسی اور ممبران کو ووٹ 2 کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تاہم، ڈائریکٹر کے لئے متاثرہ معلومات کے ساتھ بے بیٹ کیا جائے گا۔

کسی بھی ڈائریکٹر کی ذمہ داری کاروبار میں واسطہ پاا واسطہ دہی نہیں ہے سوائے ہولڈرز کے اور وہ اس کے مطابق ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے رضامندی دے سکتے ہیں۔



اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

1- سابقہ ایڈیٹر اسلام آباد کانٹریکٹس۔  
2- کینیڈا کے شہر کے 2017 میں دفعہ 159 کے تحت کئی کئی ہفتوں کیلئے ناخواب کیا۔  
3- سابق ایڈیٹر آف انٹر نیوز کے لئے، جس نے سال کے لئے ان کی تعداد آئین کی جس کی مدت تین سال کے لئے ہوئی۔  
4- سابق ایڈیٹر آف انٹر نیوز کے لئے جس نے عدویہ ناخواب کے لئے تین سال کے لئے ہوئی۔  
5- سابق ایڈیٹر آف انٹر نیوز کے لئے جس نے عدویہ ناخواب کے لئے تین سال کے لئے ہوئی۔  
6- سابق ایڈیٹر آف انٹر نیوز کے لئے جس نے عدویہ ناخواب کے لئے تین سال کے لئے ہوئی۔  
7- سابق ایڈیٹر آف انٹر نیوز کے لئے جس نے عدویہ ناخواب کے لئے تین سال کے لئے ہوئی۔  
8- سابق ایڈیٹر آف انٹر نیوز کے لئے جس نے عدویہ ناخواب کے لئے تین سال کے لئے ہوئی۔  
9- جیٹر کی اجازت سے ایڈیٹر کے سامنے کے لئے کئی ایڈیٹر اور خود۔

1۔ کمپنی کی انتقال حصص کی کتب مورخہ 22 جون 2025ء سے 30 جون 2025ء (بشمول ہر

(a) وہ اور اس کا شوہر یا اس کی بہن شذہ بروئج کے کاروبار میں ملوث ہیں اور نہ ہی سہاؤ ہیں۔ نہ ہی کارپوریٹ بروئج ہاؤس کے آفیسر ہیں یا ڈائریکٹر۔

(d) امیدوار کا تفصیلی پروفائل اور تعلیمی اسناد۔

3- معزز اربان جنرل اس اجلاس میں شرکت کے لئے اپنے اپنے علاقوں میں دوسرے کارکنوں کو مدعو کیا۔

4- سمس داران سے احساس ہے کہ اسان کے پیشہ میں جس قدر آؤں اور جیور، جی و اسٹیل میں  
5- ممبران، جو ابھی تک اپنے قومی شناختی کارڈ کی واضح فوٹو کاپی ارسال نہیں کر سکے، وہ کمپنی کو جلد

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایک ڈیٹا بینک سے کیا جائے گا جس میں ان افراد کے نام، بے اور الہست موجود ہوں گے جو کمپنیاں ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1) 166 کے مطابق خود مختار ڈائریکٹرز

ہے۔ تاہم، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آوازدار اکثر انتخاب اسی طرح کیا جائے گا جس طرح کنست میں۔ 2017ء کرکٹ 159 کرکٹرز پر مشتمل ہے۔ آوازدار اکثر انتخاب کیا جاتا ہے۔

کسی بھی ڈائریکٹر کی مذکورہ کاروبار میں واسطہ یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے سوائے شریٹر ہولڈرز کے اور

وہ اس کے مطابق ڈاکٹر کیلٹرز کے انتخاب کے لیے رضامندی دے سکتے ہیں۔